



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 28/7/2022

گورنر HOCHUL کی نیویارک کے باشندوں کو جمعرات کی سہ پہر اور شام کو شدید گرج چمک کے ساتھ آندھیوں کے لیے تیار رہنے کی تاکید

وسطی اور مشرقی نیویارک کے لیے گرج چمک کے طوفان کی پیشین گوئی

نقصان پہنچانے والے ہوا کے بگولوں، گرے ہوئے درختوں کی ٹہنیوں اور بجلی کی تاروں، اور نشیبی علاقوں میں مقامی سیلاب کا امکان

قومی محکمہ موسمیات کے اطلاعی ریڈار نے جمعرات کو وائیومنگ کاؤنٹی میں طوفان کی تصدیق کی

گورنر Hochul نے نیویارک کے مکینوں کو جمعرات کی شام کے سفر کے دوران احتیاط برتنے اور چوکننا رہنے کی تاکید کی

گورنر Kathy Hochul نے آج نیویارک کے مکینوں پر زور دیا کہ وہ جمعرات کی سہ پہر سے لے کر شام تک تیز اور شدید گرج چمک کے لیے تیار رہیں جس کے ریاست کے بیشتر علاقوں کو متاثر کرنے کی توقع ہے۔

گورنر Hochul نے کہا، "ہم آج کی پیشین گوئی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ شدید طوفان آج شام تک ریاست کے بیشتر حصوں کو متاثر کر سکتے ہیں، جس میں ایک مختصر طوفانی بگولے کے وائیومنگ کاؤنٹی سے گزرنے کی اطلاعات ہیں۔" "میں نیویارک کے مکینوں کو ترغیب دیتی ہوں کہ وہ اپنی مقامی پیشین گوئیوں کا دھیان رکھیں اور ہنگامی خبرداریوں کے لیے سائن اپ کریں تاکہ وہ شدید موسم سے پہلے محفوظ رہنے کے لیے اقدامات کر سکیں۔"

قومی محکمہ موسمیات کے طوفان کے پیشین گوئی مرکز نے ریاست کے بیشتر حصوں میں رات 8 بجے تک گرج چمک کے ساتھ شدید طوفان آنے کا بتایا ہے۔ یہ طوفان نقصان دہ ہوائیں لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اتنے مضبوط ہیں کہ درختوں اور بجلی کی لائنوں کو گرا سکتے ہیں - جس کے نتیجے میں بجلی کی بندش، ممکنہ طور پر ایک انچ سے زیادہ موٹائی کے اولے، اور شدید بارش برس سکتے ہیں جو کہیں کہیں تیز سیلابی صورتحال کا باعث بن سکتے ہیں۔

ہوم لینڈ سکیورٹی اور ایمرجنسی سروسز کے ریاستی ڈویژن کے کمشنر Jackie Bray نے کہا، "نیویارک کے مکینوں کو آج شام تک ریاست کے بیشتر حصوں کو متاثر کرنے والے شدید موسم کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ڈویژن آف ہوم لینڈ سکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) اس وقت ریاست بھر میں موسمی حالات کی نگرانی کر رہا ہے اور مقامی حکومت میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ طوفان سے متعلقہ کسی بھی اثرات کے لیے تیار ہیں۔ گورنر Hochul اور میں سب سے کہہ رہے ہیں کہ آج باخبر رہیں، انتباہات کے لیے سائن اپ کریں اور اپنی مقامی پیشین گوئیوں پر عمل کریں کیونکہ حالات دن بھر بدل سکتے ہیں۔"

موسم کے متعلق خریداریوں اور پیشین گوئیوں کی مکمل فہرست کے لیے، قومی محکمہ موسمیات کی ویب سائٹ <https://alerts.weather.gov> ملاحظہ کریں۔ نیویارک کی مکینوں کو یہ ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ وہ <https://alert.ny.gov> پر NY Alert کو سبسکرائب کر کے ہنگامی انتباہات کے لیے سائن اپ کریں، جو ٹیکسٹ/کال/ای میل کے ذریعے اہم ہنگامی معلومات فراہم کرنے کی ایک مفت خدمت ہے۔

شدید موسم میں باحفاظت رہنے کے گُر

تیار رہنا

- آپ جس کاؤنٹی میں رہتے ہیں اس کے متعلق معلومات رکھیں اور قریبی شہروں کے نام جانیں۔
- شدید موسم کے انتباہ کاؤنٹی کے لحاظ سے جاری کیے جاتے ہیں۔
- جلدی میں نکلنا درکار ہونے کی صورت میں اپنے گھر یا کام کی جگہ سے بلند، محفوظ مقام تک کا محفوظ ترین راستہ جان کر رکھیں۔
- 'خاندان کے ساتھ انخلا' کا منصوبہ بنا کر رکھیں اور اس کی مشق کریں اور خاندان کے افراد کے ایک دوسرے سے بچھڑ جانے کی صورت میں اکٹھا ہونے کی کوئی جگہ آپس میں طے کر کے رکھیں۔
- تمام قیمتی اشیاء، بشمول فرنشنگ، ملبوسات اور دیگر ذاتی ملکیتی اشیاء کی ایک درجہ بند فہرست بنا کر رکھیں۔ اس فہرست کو کسی محفوظ جگہ پر رکھیں۔
- ڈبہ بند کھانے، ادویات اور ابتدائی طبی امداد کا سامان؛ اور پینے کا پانی ہنگامی حالات کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ پینے کے پانی کو صاف، بند کنتینرز میں ذخیرہ کریں۔
- منصوبہ بندی کر کے رکھیں کہ اپنے پالتو جانوروں کا کیا کرنا ہے۔
- دستی ریڈیو، فلیش لائٹیں، اضافی بیٹریاں اور ہنگامی صورتحال میں کھانا پکانے کا ساز و سامان دستیاب رکھیں۔
- اپنی گاڑی میں ایندھن یا چارجنگ مکمل رکھیں۔ بجلی منقطع ہو جانے کی صورت میں گیسولین اسٹیشنز کئی دنوں تک ایندھن فراہم نہیں کر سکیں گے۔ اپنی گاڑی کی ڈگی میں آفت زدہ حالات سے نمٹنے کی اشیاء کی کٹ رکھیں۔
- آفت زدہ حالات کے نمٹنے کی اشیاء کو قابل رسائی رکھیں، بشمول:
 - فلیش لائٹ اور اضافی بیٹریاں
 - بیٹری سے چلنے والا ریڈیو اور اضافی بیٹریاں
 - ابتدائی طبی امداد اور رہنما کتابچہ
 - ہنگامی صورتحال کے لیے کھانا اور پانی
 - بجلی کے بغیر چلنے والا کین اوپنر
 - ضروری ادویات
 - چیک بک، نقد رقم، کریڈٹ کارڈز، ATM کارڈز

طوفانی بگولے

- اگر آپ کہیں باہر ہوں اور طوفانی بگولوں کی تشبیہ جاری ہو جائے، تو فوری طور پر پناہ ڈھونڈیں۔ اگر آس پاس کوئی جائے پناہ نہ ہو، تو اپنے ہاتھوں سے سر کو ڈھانپتے ہوئے کسی گڑھے یا نچلی جگہ پر سیدھے لیٹ جائیں۔
- اگر گھر میں یا کسی چھوٹی عمارت میں ہیں، تو تہ خانے میں چلے جائیں یا عمارت کی سب سے نچلی منزل پر کسی اندرونی کمرے میں چلے جائیں۔ کھڑکیوں سے دور رہیں۔ الماریاں، بیت الخلاء اور دیگر اندرونی کمرے بہترین تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ کسی مضبوط چیز کے نیچے گھس جائیں یا اپنے آپ کو گدے سے ڈھانپ لیں۔
- اگر سکول، ہسپتال، یا خریداری مرکز میں ہیں، تو پہلے سے مقرر کردہ پناہ میں چلے جائیں۔ بڑے کھلے علاقوں اور کھڑکیوں سے دور رہیں۔ اپنی کار سے باہر نہ نکلیں۔
- اگر اونچی عمارت میں ہیں تو، کسی اندرونی چھوٹے کمرے یا دالان میں یا ممکنہ ترین نچلی منزل پر چلے جائیں۔ لفٹ کا استعمال نہ کریں - اس کے بجائے سیڑھیاں استعمال کریں۔

اچانک سیلاب

- سیلاب زدہ سڑک پر کبھی گاڑی چلانے کی کوشش نہ کریں۔ واپس مڑ جائیں اور دوسری سمت میں چل پڑیں۔
- اگر آپ کی گاڑی میں آپ کے آس پاس پانی تیزی سے بڑھنے لگے تو گاڑی سے فوراً اتر جائیں۔
- تیز بہاؤ والے پانی کی طاقت کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں۔ تیز بہاؤ والا دو فٹ گہرا پانی آپ کی گاڑی کو بہا لے جائے گا اور دو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا پانی گاڑیوں کو سڑک یا پُل پر سے بہا کر لے جا سکتا ہے۔

آسمانی بجلی

- 30-30 کے اصول پر عمل کریں: اگر آپ کو بجلی کی چمک دکھائی دینے اور اس کی گرج سنائی دینے کے درمیان وقفہ 30 سیکنڈ یا اس سے کم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانی بجلی اتنی قریب ہے کہ آپ کو اپنی زد میں لے لے۔ فوری طور پر محفوظ جگہ پر چلے جائیں۔ آسمانی بجلی کی آخری چمک کے بعد اپنی محفوظ پناہ گاہ سے نکلنے سے پہلے 30 منٹ تک انتظار کریں۔
- آسمانی بجلی سب سے اونچی چیز پر گرتی ہے۔ اگر آپ ارد گرد کے درختوں سے اونچی جگہ پر ہیں تو جلدی سے ان سے نیچے ہو جائیں اور اگر آپ کسی کھلی جگہ پر ہیں تو پنچوں کے بل بیٹھ جائیں۔
- اگر آپ کسی محفوظ پناہ گاہ تک نہیں جا سکتے تو درختوں سے دور رہیں۔ اگر کوئی محفوظ پناہ گاہ نہ ہو تو کھلی جگہ پر پنچوں کے بل بیٹھ جائیں اور کسی درخت سے اس کی لمبائی سے دوگنا فاصلہ رکھیں۔

حفاظت کے مزید گُر جاننے کے لیے www.dhSES.ny.gov/safety پر نیو یارک اسٹیٹ کے ڈویژن آف ہوم لینڈ سکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز کا حفاظتی گُر وں کا ویب پیج ملاحظہ کریں۔

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے www.governor.ny.gov
ریاست نیویارک | ایگزیکٹو چیمبر | 518.474.8418 | press.office@exec.ny.gov

[ان سبسکرائب کریں](#)